



## ”تم میں سے اور آدمی ذمہ دار اور آدمی اپنے ماتحتوں کے بارے میں جواب دے“

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا : ”تم میں سے اور آدمی ذمہ دار اور آدمی اپنے ماتحتوں کے بارے میں جواب دے“؛ چنانچہ لوگوں کا امیر ذمہ دار اور اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، مرد اپنے گھر والوں کا ذمہ دار اور اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کی ذمہ دار اور اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، غلام اپنے آقا کے مال کا ذمہ دار اور اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا اس طرح تم میں سے ہر شخص ذمہ دار اور اس سے اس کے ماتحتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا“

[صحیح] [متفق علیہ]

اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ و سلم بتا رہے ہیں کہ سماج میں رہنے والے ہر مسلمان کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، جو اسے اٹھانی ہی ہوں گی امام اور امیر اپنے ماتحت لوگوں کا ذمہ دار اور اس کا کام ان کے دین و شریعت کی حفاظت کرنا، ظالموں سے ان کی حفاظت کرنا، ان کے دشمنوں سے جہاد کرنا اور ان کے حقوق کو محفوظ رکھنا اور ہر شخص اپنے اہل خانہ پر خرچ کرنے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے، ان کو تعلیم سے آراستہ کرنے اور ادب سکھانے کا مکلف ہے ایک عورت پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر کو اچھے سے سنبھالے اور بچوں کی بہتر تربیت کرے خادم اور مزدور پر یہ ذمہ دار عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے پاس موجود اپنے آقا کے مال کی حفاظت کرے اور اس کی خدمت کرے اس طرح ہر شخص اپنے ماتحت موجود لوگوں اور چیزوں کا ذمہ دار ہے اور اس سے ان کے بارے میں پرسش ہوگی

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/5819>



النجاة الخيرية  
ALNAJAT CHARITY

